

Q. 7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

3  
Lahore is not only the city of tourism, but also an ancient center of culture too. The Mughal culture prospered here and it was also the hub of Sikhism. This city inherited literature and knowledge. Sufis grew here as the writer of famous mystic book Kashf al Mahjub, <sup>Hafiz Ali Hujwiri</sup> is buried in this city. Lahore's fashion ruled over the subcontinent during British rule. Even after the establishment of Pakistan, the glory of the country did not decrease.

also witnessed its peak here

it retained its glory even after

try to attempt in idiomatic and proverbial manner please